



انہوں نے تمہارے ساتھ خیانت کی، تمہاری نافرمانی کی اور تم سے جو جھوٹ بولا، ان سب کا شمار و حساب ہو گا اور تم نے انہیں جو سزائیں دی ہیں ان کا بھی شمار و حساب ہو گا

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میرے دو غلام ہیں، جومجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میرے مال میں خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں جب کہ میں انہیں گالیاں دیتا ہوں اور مارتا ہوں میرا ان کا نپٹارا کیسے ہو گا؟ آپ نے فرمایا: ”انہوں نے تمہارے ساتھ خیانت کی، تمہاری نافرمانی کی اور تم سے جو جھوٹ بولا، ان سب کا شمار و حساب ہو گا اور تم نے انہیں جو سزائیں دی ہیں ان کا بھی شمار و حساب ہو گا اب اگر تمہاری سزائیں ان کے گناہوں کے بقدر ہوتیں تو تم اور وہ برابر برابر جھوٹ جاؤ گے نہ تمہارا حق ان پر رہے گا اور نہ ان کا حق تم پر اور اگر تمہاری سزا ان کے قصور سے کم ہوئی تو تمہارا فضل و احسان ہو گا اور اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہوئی تو تجھ سے ان کے ساتھ زیادتی کا بدلہ لیا جائے گا“ (یہ سن کر) وہ شخص زور زور سے روتا ہوا واپس ہو گیا، تو آپ نے فرمایا: ”کیا تم کتاب اللہ نہیں پڑھتے؟ (جس میں لکھا ہے:) ”قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا“ اس شخص نے کہا: قسم اللہ کی! میں اپنے اور ان کے لیے اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں پاتا کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ سب آزاد ہیں

[ضعیف] [رواہ الترمذی]

ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے غلاموں کی نازیبا حرکتوں کی شکایت کرنے لگا کہ اس کے غلام بات کرتے وقت اس سے جھوٹ بولتے ہیں، امانت میں اس کی خیانت کرتے ہیں، معاملات میں اس کے ساتھ فریب کرتے ہیں اور اس کا حکم نہیں مانتے جب کہ ان کو راہ راست پر لانے اور ان کی سرزنش کرنے کے لیے انہیں گالی دیتا اور مارتا پیٹتا ہے اس شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن ان غلاموں کے ساتھ اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: انہوں نے تمہارے ساتھ خیانت کی، تمہاری نافرمانی کی اور تم سے جو جھوٹ بولا، لہذا ان سب کا شمار و حساب ہو گا اور تم نے انہیں جو سزائیں دی ہیں ان کا بھی شمار و حساب ہو گا اب اگر تمہاری سزائیں ان کے گناہوں کے بقدر ہوتیں، تو نہ تمہارا حق ان پر رہے گا اور نہ ان کا حق تم پر جب کہ اگر تمہاری سزا ان کے قصور سے کم ہوئی، تو یہ تمہارے اجر و ثواب میں اضافے کا باعث بنے گا لیکن اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہوئی، تو تجھ سے قدر زائد لے کر ان کو دیا جائے گا (یہ سن کر) وہ شخص زور زور سے رونے لگا اس کی یہ حالت دیکھ آپ نے فرمایا: ”کیا تم کتاب اللہ نہیں پڑھتے؟ (اللہ نے فرمایا ہے:) {قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا، تو ہم اسے لا حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے“ [الأنبياء: 47] یہ سن کر اس شخص نے کہا: قسم اللہ کی! میں اپنے اور ان کے لیے اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں پاتا کہ میں ان سے جدا ہو جاؤں اور انہیں چھوڑ دوں میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ سب اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہیں، فقط اس لیے کہ حساب و کتاب اور عذاب سے محفوظ رہ سکیں



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

